

**SALAT TRANSLATION**

|                | Sunnah (Nafl) | Fard     | Sunnah   | Vitr (Nafl)  | Total Raka'at | Other Conditions:  | Five Conditions of Salat:                               |
|----------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|--|---|
| <b>Fajr</b>    | <b>2</b>      | <b>2</b> | -        | -            | <b>4</b>      | 1. Ihsan: is to worship God as though you see Him, and if you cannot see Him, then indeed He sees you. | 1. Timings: Offer five daily prayers at its proper time |
| <b>Zuhr</b>    | <b>4</b>      | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>(2) -</b> | <b>10</b>     | 2. Keep in mind that Lord of Great Honor and Majesty is in front of you                                | 2. Purity: Perform proper ablution                      |
| <b>Asr</b>     | <b>(4)</b>    | <b>4</b> | -        | -            | <b>4</b>      | 3. Memorize the translation of Salat   | 3. Clothing: Clean and sufficient clothing              |
| <b>Maghrib</b> | -             | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>(2) -</b> | <b>5</b>      | 4. Understand what you are saying and how it is relevant to your life                                  | 4. Qibla: Turn to Qibla to pray                         |
| <b>Isha</b>    | -             | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>(2) 3</b> | <b>9</b>      | 5. Connection: Try to establish thoughtful and emotional connection with God                           | 5. Intention to perform Salat                           |

|   |  |
|---|--|
| یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا بڑی شان والا ہے۔<br><i>You are indeed the Praiseworthy, the Exalted</i><br>اے اللہ تو برکات نازل فرما محمد پر<br>O Allah, prosper Muhammad <sup>saw</sup><br>اور محمد کی آل پر بھی۔<br>and the people of Muhammad <sup>saw</sup> ,<br>جیسے تو نے ابراہیم پر برکات نازل فرمائی<br>as You did prosper Abraham <sup>as</sup><br>اور ابراہیم کی آل پر<br>and the people of Abraham <sup>as</sup><br>یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا بڑی شان والا ہے۔<br><i>You are indeed the Praiseworthy, the Exalted</i> | إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ط<br><i>innaka Hameed-um-Majeed</i><br>اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ<br><i>Allah-umma baarik `alaa Muhammadin</i><br>وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ<br><i>wa `alaa aali Muhammadin</i><br>كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ<br><i>kama baarakta `alaa Ibraheema,</i><br>وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ<br><i>wa `alaa aali Ibraheema</i><br>إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ<br><i>innaka Hameed-um-Majeed</i> |
|---|--|

**Concluding Prayers - Prayer 1**

|   |   |
|---|---|
| اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں (ہر قسم کی) بھلائی عطا فرما<br><i>Our Lord, grant us good in this world</i><br>اور اگلے جہان بھی بھلائی (عطا فرما)<br>as well as good in the world to come<br>اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا<br>and protect us from the torment of the Fire. | رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً<br><i>Rabbanaa aatinaa fid-dunya hasanatanw-</i><br>وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً<br><i>-wa fil-`akhirati hasanatanw-</i><br>وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ<br><i>wa qinaa `azaabannaar</i> |
|---|---|

**Prayer 2**

|  |  |
|--|--|
| اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا<br><i>My Lord, make me observe Prayer,</i><br>اور میری اولاد کو بھی۔<br>and make my children too.<br>اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول فرما<br><i>Our Lord! And accept my prayer.</i><br>اے ہمارے رب، مجھے بخش دے۔<br><i>Our Lord, grant forgiveness to me</i><br>اور میرے والدین کو (بھی) اور (سب) مومنوں کو (بھی)<br>and to my parents, and to the believers<br>جس دن حساب قائم ہوگا<br><i>on the day when the reckoning will take place.</i> | رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ<br><i>Rabbij-al-nee muqeem-as-salaati</i><br>وَمِن ذُرِّيَّتِي<br><i>wa min dhurriyyatee;</i><br>رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ<br><i>Rabbanaa wa taqabbal du`aa.</i><br>رَبَّنَا اغْفِرْ لِي<br><i>Rabba-naghfir-lee</i><br>وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ<br><i>wa li-waali-dayya wa lilmu`mineena</i><br>يَوْمَ يَفْشَرُ الْحِسَابُ<br><i>yauma yaqoo-mulhisaab</i> |
|--|--|

**Salaam**

|  |  |
|--|--|
| اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمتیں تم پر ہوں۔<br>Peace be on you and the blessings of Allah | السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ<br><i>Assalaamu-alaikum wa Rahmat-Ullah</i> |
|--|--|

| <b>Takbeer</b>                   |   |
|----------------------------------|---|
| اللہ اکبر<br><i>Allahu akbar</i> | اللہ سب سے بڑا ہے<br><i>Allah is the greatest</i> |

**Niyah- Intention (for Prayer)**

|   |   |
|---|---|
| میں نے اپنی پوری توجہ اس ہستی کی طرف کر دی جس نے<br><i>I have turned my full attention towards Him Who</i><br>پیدا کیا آسمان اور زمین کو خالص ہو کر<br><i>has created the heavens and the earth, being ever-inclined to Him</i><br>اور نہیں ہوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹہرانے والوں میں سے<br><i>and I am not one of those who associate partners (with Allah)</i> | وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي<br><i>Wajjahtu waj-hiya lilla-dhee</i><br>فَطَرَا لَسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا<br><i>Fataras-samaawaati wal arda haneefan</i><br>وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ<br><i>Wa maa ana minal mushrikeen</i> |
|---|---|

**Thanaa'**

|  |   |
|--|---|
| پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ<br><i>Holy are You, O Allah, the Praiseworthy,</i><br>اور برکت والا ہے تیرا نام - اور بلند ہے تیری شان<br><i>and blessed is Your name, and exalted is Your Majesty</i><br>اور کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں تیرے سوا<br><i>And there is none worthy of worship besides You</i> | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ<br><i>Subhaanak-Allahum-ma wa bihamdika</i><br>وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ<br><i>wa tabaara-kasmu-ka wa ta-`aalaa jadduka</i><br>وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط<br><i>wa laa ilaaha ghairuk</i> |
|--|---|

**At-ta'awwuz**

|   |  |
|---|--|
| میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ رائے ہوئے شیطان سے<br><i>I seek refuge with Allah from Satan the rejected</i> | أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<br><i>A'oodhu biLlahi minash-shaitaanirrajeem</i> |
|---|--|

**Surah Al-Fatihah**

|  |   |
|--|---|
| اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے<br><i>In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.</i><br>تمام حمد اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے<br><i>All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds</i> | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ<br><i>Bismillahir-Rahman-ir-Raheem</i><br>الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<br><i>Al-hamdu liLlahi rabbil-`aalameen</i> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے<br/>The Gracious, the Merciful.<br/>مالک ہے جزا سزا کے دن کا<br/>Master of the Day of Judgement<br/>تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں<br/>You alone do we worship and You alone do we beseech for help.<br/>دکھا ہمیں راستہ سیدھا<br/>Guide us to the right path<br/>راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔<br/>The path of those upon whom You have bestowed Your blessings<br/>نہ کہ ان لوگوں کا (راستہ) جن پر تیرا غضب ہو۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا جنہوں نے گمراہی اختیار کی۔ (آئینہ)<br/>Not of those who have incurred Your displeasure, nor of those who have gone astray (Aa-meen)</p> | <p>الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ<br/>Ar-Rahmanir-Raheem<br/>مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ<br/>Maaliki yaumid-deen<br/>إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ<br/>Iyyaaka na`budu wa iyyaaka nasta`een<br/>إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ<br/>Ihdinas-siraatal-mustaqeem<br/>صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ<br/>Siraatalla-dheena an`amta `alaihim<br/>غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ<br/>ghairil-maghdoobi `alaihim wa laddaal-leen.<br/><b>Surah Al-Ikhlaas</b></p> |
| <p>اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے<br/>In the name of Allah, the Gracious, the Merciful<br/>تو کہہ وہ اللہ ایک ہے<br/>Say, He is Allah, the One<br/>اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہیں (وہ بے نیاز ہے)<br/>Allah, the Independent and Besought of all<br/>نہ اس نے کس کو جنا اور نہ وہ جتنا گیا<br/>He begets not, nor is He begotten<br/>اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی<br/>And there is none like unto Him</p>  | <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ<br/>BismilLahir-Rahman-ir-Raheem<br/>قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ<br/>Qul Huw-Allahu Ahad<br/>اللَّهُ الصَّمَدُ<br/>Allah-us-Samad<br/>لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ<br/>Lam yalid wa lam yoolad<br/>وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ<br/>wa lam ya-kullahoo kufuwan ahad<br/><b>Rukoo`</b></p>   |
| <p>پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا<br/>Holy is my Lord, the Most Great</p>  | <p>سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ط<br/>Subhaana Rabbi-yal `Azeem<br/><b>Tasmee`</b></p>   |
| <p>اللہ تعالیٰ نے اسکی (ذما) سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔<br/>Allah hears him who praises Him<br/>اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لئے ہے۔<br/>Our Lord, Yours is the praise<br/>بہت زیادہ تعریف۔ پاکیزہ اور برکت والی۔<br/>praise that is abundant, pure and full of blessings</p>   | <p>سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ط<br/>Sami`-Allaahu liman hamidah<br/>رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ط<br/>Rabbanaa wa lakal hamd<br/>حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ط<br/>Hamdan katheeran tayyiban mubaarakan feeh</p>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔<br/>Holy is my Lord, the Most High</p>  | <p><b>Sajdah (Prostration)</b><br/>سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى<br/>Subhaana Rabbi yal a`laa<br/><b>Prayer between two Sajdahs</b></p>  |
| <p>اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما<br/>O my Lord, forgive me and have mercy on me,<br/>اور ہدایت دے مجھے اور خیریت سے رکھ مجھے اور اصلاح کر میری<br/>and guide me and grant me security and make good my shortcoming,</p>  | <p>اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما<br/>O my Lord, forgive me and have mercy on me,<br/>اور ہدایت دے مجھے اور خیریت سے رکھ مجھے اور اصلاح کر میری<br/>and guide me and grant me security and make good my shortcoming,</p>  | <p>رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي<br/>Rabbigh-fir-lee warham-nee,<br/>وَأَهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَجْبِرْنِي<br/>wahdi-nee wa aafi-nee, waj-burnee</p>  |
| <p>اور مجھے رزق عطا کر اور (رتبہ) بلند کر میرا۔<br/>and provide for me and raise me up (in status)</p>  | <p>اور مجھے رزق عطا کر اور (رتبہ) بلند کر میرا۔<br/>and provide for me and raise me up (in status)</p>  | <p>وَأَرْزُقْنِي وَأَرْفَعْنِي<br/>wa-rzuq-nee, wa-rfa`-nee<br/><b>At-Tashah-hud</b></p>  |
| <p>تمام زبانی عبادت اللہ کے لئے ہیں۔<br/>All verbal worship is due to Allah<br/>اور بدنی اور مالی عبادت (بھی)۔<br/>and all physical acts of worship and financial sacrifices.</p>   | <p>تمام زبانی عبادت اللہ کے لئے ہیں۔<br/>All verbal worship is due to Allah<br/>اور بدنی اور مالی عبادت (بھی)۔<br/>and all physical acts of worship and financial sacrifices.</p>   | <p>التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ<br/>at-tahiyyaatu lilLahi,<br/>وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ<br/>was-salawaatu, wat-tayyibaatu<br/>السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ<br/>as-salaamu `alaika ayyuhan-nabiyyu<br/>وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ<br/>wa rahmat-Ullahi wa barakaatuho;<br/>السَّلَامُ عَلَيْنَا<br/>as-salaamu `alainaa<br/>وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ط<br/>wa `alaa `ibaadi-Llahissaaaliheen;<br/>أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ<br/>Ash-hadu allaa ilaaha illAllahu<br/>وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط<br/>Wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhoo wa rasooluh<br/><b>Durood Shareef - Salat`alan-Nabee</b></p> |
| <p>اے اللہ محمد پر خاص فضل فرما<br/>O Allah, bless Muhammad<sup>saw</sup><br/>اور محمد کی آل پر بھی۔<br/>And the people of Muhammad<sup>saw</sup><br/>جیسے تو نے ابراہیم پر فضل فرمایا۔<br/>as You did bless Abraham<sup>as</sup><br/>اور ابراہیم کی آل پر<br/>and the people of Abraham<sup>as</sup></p> | <p>اے اللہ محمد پر خاص فضل فرما<br/>O Allah, bless Muhammad<sup>saw</sup><br/>اور محمد کی آل پر بھی۔<br/>And the people of Muhammad<sup>saw</sup><br/>جیسے تو نے ابراہیم پر فضل فرمایا۔<br/>as You did bless Abraham<sup>as</sup><br/>اور ابراہیم کی آل پر<br/>and the people of Abraham<sup>as</sup></p> | <p>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ<br/>Allah-umma salli `alaa Muhammadin<br/>وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ<br/>-wa `alaa aali Muhammadin,<br/>كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ<br/>kamaa sallaita `alaa Ibraheema<br/>وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ<br/>wa `alaa aali Ibraheema</p>   |